

**Salat**

## Table of Translation & Transliteration of Salat

### Niyya - Intention (for Prayer)

نِيَّة

Wajjahtu waj-hiya lilla-dhee		وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي			
I have turned my full attention towards Him Who		میں نے اپنی پوری توجہ کر دی اس سمت کی طرف جس نے			
lilla-dhee	اللَّذِي	waj-hiya	وَجْهِي	Wajjahtu	وَجَّهْتُ
towards Him Who	اس سمت کی طرف	my full attention	پوری توجہ اپنی	I have turned	میں نے توجہ کر دی

fataras-samaawaati wal arda haneefan				فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا			
has created the heavens and the earth, being ever-inclined to Him				پیدا کیا آسمان اور زمین کو خالص ہو کر			
haneefan	حَنِيفًا	wal arda	وَالْأَرْضَ	as-samaawaati	السَّمَوَاتِ	fataras	فَطَرَ
being ever-inclined	خالص ہو کر	and the earth	اور زمین	The heavens	آسمانوں	has created	پیدا کیا

wa maa ana minal mushrikeen				وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ			
and I am not one of those who associate partners with Allah				اور میں ہوں میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں میں سے۔			
al mushrikeen	الْمُشْرِكِينَ	min	مِنَ	وَأَنَا	وَمَا	وَأَنَا	وَمَا
who associate partners (with Allah)	(اللہ کا) شریک ٹھہرانے والوں	(one) of those	میں	I am	and not	میں	اور نہیں

### Thanaa'

ثَنَاء

Subhaanak-Allahum-ma wa bihamdi-ka		سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ			
Holy are You, O Allah, the Praiseworthy		پاک ہے تو اے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ			
wa bihamdi-ka	وَبِحَمْدِكَ	Allahum-ma	اللَّهُمَّ	Subhaanak	سُبْحَانَكَ
the Praiseworthy	اور تعریف کے ساتھ تیری	O Allah	اے اللہ	Holy are You	پاک ہے تو

wa tabaara-kasmu-ka wa ta-'aalaa jadduka					وَقَبَارِكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ		
and blessed is Your name and exalted is Your Majesty					اور برکت والا ہے تیرا نام۔ اور بلند ہے تیری شان۔		
jadduka	جَدُّكَ	wa ta-'aalaa	وَتَعَالَى	ismu-ka	اسْمُكَ	wa tabaaraka	وَقَبَارِكَ
Your Majesty	شان تیری	and exalted	اور بلند	Your name	نام تیرا	and blessed is	اور برکت

wa laa ilaaha ghairuk					وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ		
and there is none worthy of worship besides You					اور کوئی عبادت کے لائق ہستی نہیں تیرے سوا۔		
ghairuk	غَيْرُكَ	ilaaha	إِلَهَ	wa laa	وَلَا		
besides You	سوائے تیرے	worthy of worship	عبادت کے لائق	and (there is) none	اور نہیں		

## التَّوَهُّدُ

### At-ta'awwuz

A'oodhu biLlahi minash-shaitaanir-rajeem					أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ		
I seek refuge with Allah from Satan the rejected					میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مدد کے ساتھ رائے ہوئے شیطان سے۔		
ar-rajeem	الرَّجِيمِ	minash-shaitaani	مِنَ الشَّيْطَانِ	biLlahi	بِاللَّهِ	A'oodhu	أَعُوذُ
the rejected	رائے (دھکلا) ہوا	from Satan	شیطان سے	with Allah	ساتھ اللہ کے	I seek refuge	میں پناہ مانگتا ہوں

## سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

### Surah Al-Fatihah

BismilLahir-Rahmaan-ir-Raheem					بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ		
In the name of Allah the Gracious, the Merciful					اللہ کے نام کے ساتھ (شروع کرتا ہوں) جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے		
Ar-raheemi	الرَّحِيمِ	Ar-rahmaani	الرَّحْمَنِ	Allahi	اللَّهِ	Bismi	بِسْمِ
the Merciful	اور بار بار رحم کرنے والا	the Gracious	جو نہایت مہربان	of Allah	اللہ	In the name	ساتھ نام

Al-hamdu liLlahi rabbi-'aalameen				اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝			
All praise belongs to Allah, Lord of all the worlds				تمام حمد اللہ ہی کیلئے ہے رب ہے تمام جہانوں کا			
al-'aalameena	اَلْعَالَمِيْنَ	rabbi	رَبِّ	liLlahi	لِلّٰهِ	Al-hamdu	اَلْحَمْدُ
of All the Worlds	تمام جہانوں کا	Lord	جو رب (ہے)	belongs to Allah	اللہ کے لیے	all praise	تمام حمد (تعریف)

Ar-Rahmaanir-Raheem			الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝		
The Gracious, the Merciful			جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے		
Ar-raheemi	الرَّحِيْمِ		Ar-Rahmani	الرَّحْمٰنِ	
the Merciful	بار بار رحم کرنے والا		the Gracious	نہایت مہربان	

Maaliki yaumid-deen			مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝		
Master of the Day of Judgement			مالک ہے جزا سزا کے دن کا		
addeeni	الدِّيْنِ		yaumi	يَوْمِ	Maliki
of Judgment	جزا سزا (کا)		of the Day	دن	Master

Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'een				اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝			
You alone do we worship and You alone do we beseech for help				تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں			
nasta'een	نَسْتَعِيْنُ	wa iyyaaka	وَاِيَّاكَ	na'budu	نَعْبُدُ	Iyyaaka	اِيَّاكَ
do we beseech for help	ہم مدد چاہتے ہیں	and You alone	اور تجھی سے	do we worship	ہم عبادت کرتے ہیں	You (alone)	تیری ہی

Ihdinas-siraatal-mustaqeem			اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝		
Guide us to the right path.			دکھا ہمیں راستہ سیدھا		
al-mustaqeem	اَلْمُسْتَقِيْمَ	as-siraata	الصِّرَاطَ	Ihdinaa	اِهْدِنَا
right	سیدھا	the path	راستہ	Guide us to	دکھا ہمیں

Siraatala-dheena an`amta `alai-him					صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝		
The path of those upon whom You have bestowed Your blessings					راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔		
`alai-him	عَلَيْهِمْ	an`amta	أَنْعَمْتَ	alla-dheena	الَّذِينَ	Siraat	صِرَاطَ
upon whom	جن پر	You have bestowed Your blessings	تو نے انعام کیا	of those	ان لوگوں کا	the path	راستہ

ghairil-maghdoobi `alahim wa lad-daal-Heen					غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝		
not of those who have incurred Your displeasure, nor of those who have gone astray (Aa-meen)					نہ ان لوگوں کا (راستہ) جن پر تیرا غضب ہوا۔ اور نہ ہی ان لوگوں کا جنہوں نے گمراہی اختیار کی۔ (آمین)		
wa lad-daal-Heen	وَلَا الضَّالِّينَ	alahim	عَلَيْهِمْ	al-maghdoobi	الْمَغْضُوبِ	ghairi	غَيْرِ
nor of ( those) who have gone astray	اور نہ گمراہ لوگ	on them	جن پر	who have incurred (Your) displeasure	غضب ہوا	not (of those)	نہ (کہ)

### Surah Al-Ikhlaas

### سُورَةُ الْإِخْلَاصِ

BismiLlahi-r-Rahmanir Raheem					بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝		
In the name of Allah, the Gracious, the Merciful					اللہ کے نام کے ساتھ (شروع کرتا ہوں) جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے		
ar-Raheem	الرَّحِيمِ	ar-Rahmani	الرَّحْمَنِ	Alahi	اللَّهُ	Bismi	بِسْمِ
the Merciful	(اور) بار بار رحم کرنے والا ہے	the Gracious	(جو) نہایت مہربان	Allah	اللہ کے	in the name	ساتھ نام

Qul Huw-Allahu Ahad					قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ		
Say, He is Allah, the One					تو کہہ وہ اٹھا ایک ہے		
Ahad	أَحَدٌ	Allahu	اللَّهُ	Huwa	هُوَ	Qul	قُلْ
the One	(یک) ہے	(is) Allah	اللہ	He	وہ	Say	تو کہہ

Allah-us-Samad	اللَّهُ الصَّمَدُ		
Allah, the Independent and Besought of all	اللہ تعالیٰ کے سب محتاج ہیں (وہ بے نیاز ہے)۔		
as-Samad	الصَّمَدُ	Allaahu	اللَّهُ
the Independent and Besought of all	بے محتاج ہے	Allah	اللہ

Lam yalid wa lam yoolad	لَمْ يَلِدْ. وَ لَمْ يُوَلَدْ		
He begets not, nor is He begotten	خدا نے کسی کو جنم اور نہ وہ جنما گیا		
wa lam yoolad	وَلَمْ يُوَلَدْ	Lam yalid	لَمْ يَلِدْ
nor is He begotten	اور نہ وہ جنما گیا	He begets not	میں اس نے جنم

wa lam ya-kullahoo kufuwan ahad	وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ		
and there is none like unto Him	اور نہیں ہے اس کا ہر کوئی بھی		
kufuwan ahad	كُفُوًا أَحَدٌ	wa lam ya-kullahoo	وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ
like unto Him	ہر کوئی بھی	and there is none	اور نہیں ہے اس کا

### رُكُوعٌ

Subhaana Rabbi-yal `Azeem	سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ				
Holy is my Lord, the Most Great	پاک ہے میرا رب بڑی عظمت والا ہے				
al `Azeem	الْعَظِيمِ	Rabbi	رَبِّيَ	Subhaana	سُبْحَانَ
the Most Great	بڑی عظمت والا	my Lord	میرا رب	Holy is	پاک ہے

### تَسْمِيعٌ

Sami'-Allaahu liman hamidah	سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ						
Allah hears him who praises Him	سن لی اللہ تعالیٰ نے انکی (دعا) جس نے اس کی تعریف کی۔						
hamidah	حَمِدَهُ	liman	لِمَنْ	Allaahu	اللَّهُ	Sami'	سَمِعَ
praises Him	تعریف کی انکی	who him	انکی جس نے	Allah	اللہ (نے)	hears	سن لی

## تَحْمِيد

### Tahmeed

Rabbanaa wa lakal hamd		رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ	
Our Lord, Yours is the praise		اے ہمارے رب سب تعریف تیرے ہی لئے ہے۔	
al hamd	الْحَمْدُ	wa laka	Rabbanaa وَ لَكَ رَبَّنَا
the praise	(سب) تعریفیں	Yours is	Our Lord تیرے لئے ہمارے رب

hamdan katheeran tayyiban mubaarakan feeh		حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيهِ	
praise that is abundant, pure and full of blessings		بہت زیادہ تعریف۔ پاکیزہ اور برکت والی۔	
mubaarakan-feeh	مُبَارَكًا فِيهِ	tayyiban	طَيِّبًا
(and) full of blessings	برکت والی	pure	پاکیزہ
		katheeran	كَثِيرًا
		(that is) abundant	بہت زیادہ
		hamdan	حَمْدًا
		praise	تعریف

## سَجْدَة

### Sajdah

Subhaana Rabbi yal a'laa		سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى	
Holy is my Lord, the Most High		پاک ہے میرا رب جو بڑی شان والا ہے۔	
al a'laa	الْأَعْلَى	Rabbiya	رَبِّي
the Most High	بلند شان والا (ہے)	my Lord	میرا رب
		Subhaana	سُبْحَانَ
		Holy	پاک

### Prayer between two Sajdahs

### دو سجدوں کے درمیان کی دعا

Rabigh-fir-lee warham-nee		رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي	
O my Lord, forgive me and have mercy on me		اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما	
warham-nee	وَارْحَمْنِي	igh-fir-lee	اغْفِرْ لِي
have mercy on me	اور رحم کر مجھ پر	forgive me	مجھے بخش دے
		Rabi	رَبِّي
		my Lord	اے میرے رب

wa-hdi-nee wa'aafi-nee waj-bur-nee			وَاهْدِنِي وَ عَافِنِي وَ اجْبُرْنِي		
and guide me and grant me security make good my shortcomings			اور ہدایت دے مجھے اور خیریت سے رکھ مجھے اور اصلاح کر میری		
waj-bur-nee	وَ اجْبُرْنِي	wa aafi-nee	وَ عَافِنِي	wa-hdi-nee	وَاهْدِنِي
and make good my shortcomings	اور اصلاح کر میری	and grant me security	اور خیریت سے رکھ مجھے	and guide me	اور ہدایت دے مجھے

wa-rzuq-nee wa-rfa`-nee			وَ ارْزُقْنِي وَ ارْفَعْْنِي		
and provide for me and raise me up (In status)			اور مجھے رزق عطا کر اور (رتبہ) بلند کر میرا۔		
wa-rfa`-nee	وَ ارْفَعْْنِي	wa-rzuq-nee	وَ ارْزُقْنِي		
and raise me up (in status)	اور (رتبہ) بلند کر میرا	and provide for me	اور رزق عطا کر مجھے		

### التَّشَهُدُ

at-tahiyyaatu lilLahi			التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ		
All verbal worship is due to Allah			تمام زبانی عبادت اللہ کے لئے ہیں۔		
lilLahi	لِلَّهِ	at-tahiyyaatu	التَّحِيَّاتُ		
is due to Allah	اللہ کیلئے ہیں	All verbal worship	سب زبانی عبادت		

was-salawaatu wat-tayyibaatu			وَ الصَّلَاةُ وَ الطَّيِّبَاتُ		
and all physical acts of worship and financial sacrifices			اور ہونے والی عبادت (بھی)۔		
wat-tayyibaatu	وَ الطَّيِّبَاتُ	was-salawaatu	وَ الصَّلَاةُ		
and all financial sacrifices	اور سب مالی عبادت	and all physical worship	اور سب ہونے والی عبادت		

as-salaamu `alaika ayyuhan-nabiyyu			السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ		
Peace be on you, O Prophet			اے نبی آپ پر اللہ کی سلامتی ہو		
An-nabiyyu	النَّبِيِّ	ayyuha	أَيُّهَا	عَلَيْكَ	as-salaamu
Prophet	نبی	O	اے	آپ پر	Peace

wa rahmat-Ullahi wa barakaatuhoo		وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ			
and the Mercy of Allah and His Blessings		اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکات			
wabarakaatuhoo	وَبَرَكَاتُهُ	Allahi	اللَّهُ	wa rahmatu	وَرَحْمَةُ
and His Blessings	اور برکات انگی	of Allah	اللہ (کی)	and the Mercy	اور رحمتیں

as-slaamu `alainaa	السَّلَامُ عَلَيْنَا
Peace be on us	(اللہ کی سلامتی ہو ہم پر) (مہی)۔

wa `alaa `ibaadi-Llahi-ssaaliheen		وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ۝			
and on the righteous servants of Allah		اور اللہ کے نیک بندوں پر۔			
hi-ssaaliheen	الصَّالِحِينَ	i-Llahi	اللَّهُ	wa `alaa `ibaadi	وَعَلَىٰ عِبَادِ
the righteous	نیک	of Allah	اللہ (کے)	and on the servants	اور بندوں پر

Ash-hadu alaa ilaaha ilAllahu		أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ					
I bear witness that there is no God but Allah		میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی حق عبادت کے لائق نہیں					
ilAllahu	إِلَّا اللَّهُ	ilaaha	إِلَهَ	alaa	أَنْ لَا	Ash-hadu	أَشْهَدُ
except Allah	(سوائے اللہ کے)	God (worthy of worship)	سمجھو	(there is ) no - that	کہ نہیں (کوئی)	I bear witness	اور میں گواہی دیتا ہوں

wa ash-hadu anna Muhammadan `abduhoo wa rasooluh		وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ۝							
and I bear witness that Muhammad is His Servant and Messenger		اور میں گواہی دیتا ہوں کہ (حضرت) محمدؐ نیک بندے اور اس کے رسول ہیں							
wa rasooluh	وَرَسُولُهُ	abduhoo	عَبْدُهُ	Muhammadan	مُحَمَّدًا	anna	أَنَّ	wa ash-hadu	وَأَشْهَدُ
and His Messenger	اور رسول اس کے	is His Servant	بندے اس کے	Muhammad	محمدؐ	that	کہ	and I bear witness	اور میں گواہی دیتا ہوں

## درود شریف

### Salat 'alan Nabee

Allah-umma salli 'alaa Muhammadin				اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ			
O Allah, bless Muhammad <sup>SAW</sup>				اے اللہ محمد پر خاص فضل فرما			
Muhammadin	مُحَمَّدٍ	alaa	عَلٰى	salli	صَلِّ	Allah-umma	اَللّٰهُمَّ
Muhammad <sup>SAW</sup>	محمد (ﷺ)	upon	پہ	bless	فضل کر	Oh Allah	اے اللہ

wa 'alaa aali Muhammadin				وَ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ			
and the people of Muhammad <sup>SAW</sup>				اور محمد کی آل پر بھی۔			
Muhammadin	مُحَمَّدٍ	aali	اٰلِ	wa 'alaa	وَ عَلٰى		
(of) Muhammad <sup>SAW</sup>	محمد (ﷺ)	people	آل	and upon	اور پہ		

kamaa sallaita 'alaa Ibraheema				كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ			
as You did bless Abraham <sup>AS</sup>				جیسے تو نے ابراہیم پر فضل فرمایا			
Ibraheema	اِبْرٰهِيْمَ	'alaa	عَلٰى	sallaita	صَلَّيْتَ	kamaa	كَمَا
Abraham <sup>AS</sup>	ابراہیم	on	پہ	You did bless	تو نے فضل فرمایا	as	جیسے (جو)

wa 'alaa aali Ibraheema				وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ			
and the people of Abraham <sup>AS</sup>				اور ابراہیم کی آل پر۔			
Ibraheema	اِبْرٰهِيْمَ	aali	اٰلِ	wa 'alaa	وَ عَلٰى		
(of) Abraham <sup>AS</sup>	ابراہیم	people	آل	and upon	اور پہ		

innaka Hameed-um-Majeed		إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ ۝			
You are indeed the Praiseworthy, the Exalted		یعنی تُو ہے انجھا تو میں والا بڑی شان والا ہے۔			
Majeed	مُجِيدٌ	Hameed-um	حَمِيدٌ	innaka	إِنَّكَ
the Exalted	(بڑی) شان والا	the Praiseworthy	(بڑی) حمد والا	You are indeed	یعنی تُو

Allah-umma baarik `alaa Muham-madin		اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ				
O Allah, prosper Muhammad <sup>SAW</sup>		اے اللہ تو برکات نازل فرما محمد پر				
Muham-madin	مُحَمَّدٌ	`alaa	علی	baarik	بَارِكْ	Allah-umma
Muhammad <sup>SAW</sup>	محمد (ﷺ)	upon	پر	prosper	برکات نازل فرما	O Allah

wa `alaa aali Muhammadin		وَ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ				
and the people of Muhammad <sup>SAW</sup>		اور محمد کی آل پر بھی				
Muhammadin	مُحَمَّدٌ	aali	آل	wa `alaa	وَ عَلٰى	
(of) Muhammad <sup>SAW</sup>	محمد (ﷺ)	people	آل	and upon	اور پر	

kama baarakta `alaa Ibraheema		كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ				
as You did prosper Abraham <sup>AS</sup>		جیسے تو نے ابراہیم پر برکات نازل فرمائی				
Ibraheema	اِبْرٰهِيْمَ	`alaa	علی	baarakta	بَارَكْتَ	kama
Abraham <sup>AS</sup>	ابراہیم	upon	پر	You did prosper	تُو نے برکات نازل فرمائی	as

wa `alaa aali Ibraheema		وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ				
and the people of Abraham <sup>AS</sup>		اور ابراہیم کی آل پر				
Ibraheema	اِبْرٰهِيْمَ	aali	آل	wa `alaa	وَ عَلٰى	
(of) Abraham <sup>AS</sup>	ابراہیم	people	آل	and upon	اور پر	

innaka Hameed-um-Majeed		إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ .			
You are indeed the Praiseworthy, the Exalted		یقیناً تو بے انتہا خوبوں والا بڑی شان والا ہے			
Majeed	مَّجِيدٌ	Hameed-um	حَمِيدٌ	innaka	إِنَّكَ
the Exalted	(بڑی) شان والا	the Praiseworthy	(بڑی) حمد والا	You are indeed	یقیناً

### Concluding Prayers (before Salaam)

Rabbanaa aatinaa fid-dunya hasanatanw		رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً				
Our Lord, grant us good in this world		اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں (پرہیزگاری) بھلائی عطا فرما				
hasanatanw	حَسَنَةً	fid-dunya	فِي الدُّنْيَا	آتِنَا	Rabbanaa	رَبَّنَا
good	بھلائی	in this world	دنیا میں	grant us	عطا فرما ہمیں	Our Lord

wa fil-`aakhirati hasanatanw		وُ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً				
as well as good in the world to come		اور اگلے جہان میں بھی بھلائی (عطا فرما)				
hasanatanw	حَسَنَةً	`aakhirati	الْآخِرَةِ	فِي	wa	وُ
good	بھلائی	the world to come	آگے جہان (آخرت)	in	as well as	اور

wa qinaa `azaaban-naar		وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ				
and protect us from the torment of the Fire		اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا				
naar	النَّارِ	`azaaban	عَذَابَ	wa qinaa	وَقِنَا	
of the Fire	(آگ) کے	from the torment	عذاب	and protect us	اور بچا ہمیں	

Rabbij-al-nee muqeem-as-salaati		رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ				
My Lord, make me observe Prayer		اے میرے رب مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا				
as-salaati	الصَّلَاةِ	muqeem-	مُقِيمَ	aj-al-nee	اجْعَلْنِي	رَبِّ
Prayer	نماز	observe	قائم کرنے والا	make me	بنا مجھے	(اے) رب میرے

wa min dhurriyyatee	وَمِنْ ذُرِّيَّتِي		
and make my children too	اور میری اولاد کو بھی۔		
dhurriyyatee	ذُرِّيَّتِي	wa min	وَمِنْ
my children	اولاد میری	and from among	اور سے

Rabbanaa wa taqabbal du`aa	رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ۔			
Our Lord, and accept my prayer	اے ہمارے رب تو میری دعا کو قبول فرما۔			
du`aa	دُعَاءَ	wa taqabbal	وَقَبَّلْ	Rabbanaa
my prayer	دعا میری	and accept	تو قبول فرما	Our Lord

Rabba-naghfir-lee	رَبَّنَا اغْفِرْ لِي		
Our Lord, grant forgiveness to me	اے ہمارے رب مجھے بخش دے۔		
aghfir-lee	اغْفِرْ لِي	Rabbana	رَبَّنَا
grant me forgiveness	بخش دے مجھے	Our Lord	رب

wa li-waali-dayya wa lil-mu'mineena	وَالْوَالِدَيْنِ وَالْأَوْلِيَاءِ		
and to my parents and to the believers	اور میرے والدین کو (بھی) اور (سب) مسلمانوں کو (بھی)		
wa lil-mu'mineena	وَالْأَوْلِيَاءِ	wa li-waali-dayya	وَالْوَالِدَيْنِ
and to the believers	اور مسلمانوں کو	and to my parents	اور والدین کو میرے

yauma yaqoo-mul-hisaab	يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ			
on the day when the reckoning will take place	جس دن حساب قائم ہوگا			
ul-hisaab	الْحِسَابُ	yaqoo-mu	يَقُومُ	yauma
the reckoning	حساب	will take place	قائم ہوگا	(on) the day

## سَلَام

### Salaam

Assalaamu-alaikum wa Rahmat-Ullah				السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ.			
Peace be on you and the blessings of Allah				اللہ کی سلامتی اور انکی رحمتیں تم پر ہوں۔			
Allah	اللَّهُ	wa Rahmat	وَرَحْمَةُ	alaikum	عَلَيْكُمْ	Assalaamu	السَّلَامُ
(of) Allah	اللہ (کی)	and the blessings	اور رحمتیں	on you	تم پر	Peace (be)	سلامتی ہو

## تَسْبِيح

### Tasbeeh

Subhaan-Allah			سُبْحَانَ اللَّهِ.		
Holy is Allah			اللہ تعالیٰ تمام کا کھس سے پاک ہے		
Allah	اللَّهُ	Subhaan	سُبْحَانَ		
Allah	اللہ تعالیٰ	Holy	تم کا کھس سے پاک		

Alhamdu-Lillah			الْحَمْدُ لِلَّهِ.		
All praise belongs to Allah			تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں		
Lillah	لِلَّهِ	Alhamdu-	الْحَمْدُ		
belongs to Allah	اللہ تعالیٰ کے لئے	All praise	تمام خوبیاں		

Allahu Akbar			اللَّهُ أَكْبَرُ.		
Allah is the Greatest			اللہ سب سے بڑا ہے		
Akbar	أَكْبَرُ	Allahu	اللَّهُ		
(Is) the Greatest	سب سے بڑا	Allah	اللہ		